



سوال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اخروی امور کا مشاہدہ کرنا

جواب

الحمد للہ

اگر ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ معاملہ اور مسئلہ ہمارے لئے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا اس پر ایمان ہو گا کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ صحیح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کا خالق اور اس پر قادر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امور دکھا دے جو کہ آخرت و قیامت میں ہونے والے ہیں۔

جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور آگ کو دلو اور میں دکھا دیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو سون ادا کر رہے تھے اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لئے جنت کے پھلوں میں سے انگوروں کا ایک گچھ لے لیتے حالانکہ جنت اور زمین کے درمیان کتنی زیادہ مسافت ہے، تو جو جگہ کو قریب کر دیتا ہے اس کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ وقت و زمانے میں جو چاہے کرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ان اشیاء کا حقیقی مشاہدہ کروائے جو کہ روز قیامت ہوں گے، اس لئے کہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔۔